

# Rut

## Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיְהִי	כִּי	שָׁפַט	הַשְּׂפָטִים	וַיְהִי	רָעַב	בְּאֶרֶץ	וַיִּלְךָ	אִישׁ	לְחֶמְמָתָא
	اور-ہوا	کے-دنوں-میں	حکومت-کرنے	قاضیوں-کی	اور-ہوا	کال	میں-زمین	اور-گیا	ایک-آدمی	سے-بیت-لحم
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1035</a>
	יְהוָה	לְגוֹר	בְּשָׂרִי	מוֹאָב	הוּא	וְאִשְׁתּוֹ	וַיִּשְׁנֶי	בְּנָיו		
	یہوداہ	رہنے-کو	میں-کھیتوں	موآب-کے	وہ	اور-آس-کی-بیوی	اور-دونوں	آس-کے-بیٹے		
	<a href="#">H3063</a>			<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8147</a>			

مَلِكِ اِلىٰ نَامِ كَا جِس تَهَا رِبْتَا اَدْمٰى اِفْرَاتِي اِيك مِيں لَحْم بِيْت شَهْر كَيْ يَهُودَاه پڑا۔ كَال مِيں اِسْرَائِيْل تُو تَهِي كَرْتِي كِيَا رَابْتَمَائِي كِي قَوْم قَاضِي جَب دَنُوں اُن بَسَا۔ جَا مِيں مَوآب مَلِكِ كَر لِي كُو كَلِيُون اَوْر مَحْلُون بِيْتُوں دُو اِپْنِي اَوْر نَعُوْمِي بِيُوِي اِپْنِي وَه سِي وَجْه كِي كَال تَهَا۔

2	وְשֵׁם	הָאִישׁ	אֶלְיָמָלֶךְ	וְשֵׁם	אִשְׁתּוֹ	נְעֻמִי	וְשֵׁם	שְׁנֵי-	וּבְנָיו	מַחְלוֹן
	اور-نام	آس-آدمی-کا	الملك	اور-نام	آس-کی-بیوی-کا	نعومی	اور-نام	دونوں	آس-کے-بیٹوں-کا	محلون
	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0458</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H4248</a>
	וּבְלִיּוֹן	אֶפְרַתִּים	לְחֶמְמָתָא	יְהוָה	וַיִּבְאֵר	שָׂרִי-	מוֹאָב	וַיְהִי-	שָׁם	
	اور-کلیون	افراتی	سے-بیت-لحم	یہوداہ	اور-آئے	کھیتوں	موآب-کے	اور-رہے	وہاں	
	<a href="#">H3630</a>	<a href="#">H0673</a>	<a href="#">H1035</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8033</a>	

مَلِكِ اِلىٰ نَامِ كَا جِس تَهَا رِبْتَا اَدْمٰى اِفْرَاتِي اِيك مِيں لَحْم بِيْت شَهْر كَيْ يَهُودَاه پڑا۔ كَال مِيں اِسْرَائِيْل تُو تَهِي كَرْتِي كِيَا رَابْتَمَائِي كِي قَوْم قَاضِي جَب دَنُوں اُن بَسَا۔ جَا مِيں مَوآب مَلِكِ كَر لِي كُو كَلِيُون اَوْر مَحْلُون بِيْتُوں دُو اِپْنِي اَوْر نَعُوْمِي بِيُوِي اِپْنِي وَه سِي وَجْه كِي كَال تَهَا۔

3	وַיָּמָת	אֶלְיָמָלֶךְ	אִישׁ	נְעֻמִי	וַתִּשְׂאֵר	הִיא	וַיִּשְׁנֶי	בְּנֵיהָ		
	اور-مرا	الملك	شوبر	نعومی-کا	اور-رہ-گئی	وہ	اور-دونوں	آس-کے-بیٹے		
	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0458</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H7604</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H8147</a>			

گئی۔ رہ اکیلی ساتھ کے بیٹوں دو اپنے نعومی اور گیا، بو فوت مَلِكِ اِلىٰ بَعْدِ كَيْ دِير كَجْه لِيكِن

4	وַיִּשְׂאוּ	لָהֶם	נָשִׁים	מִבְּיָוֹת	שָׁם	הָאֶחָת	עֲרָפָה	וְשֵׁם	הַשְּׂנִית	רוּת	וַיִּשְׁבּוּ
	اور-انہوں-نے-لیں	اپنے-لیے	بیویاں	موآبی	نام	ایک-کا	عرفہ	اور-نام	دوسری-کا	روت	اور-رہے
	<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H4125</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H6204</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H7327</a>	<a href="#">H3427</a>
	שָׁם	כְּעֶשֶׂר	שָׁנִים								
	وہاں	تقریباً-دس	سال								
	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H8141</a>								

بَعْدِ كَيْ سَال دَس تَقْرِيْبًا لِيكِن رُوْت۔ كَا دُوسْرِي اَوْر تَهَا عُرْفَه نَام كَا اِيك لِي۔ كَر شَادِي سِي عُوْرْتُوں دُو كِي مَوآب نِي كَلِيُون اَوْر مَحْلُون

5	וַיָּמָוֹתוּ	גַם-	שְׁנֵיהֶם	מַחְלוֹן	וּבְלִיּוֹן	וַתִּשְׂאֵר	הָאִשָּׁה	מִשְׁנֵי	יְלָדֶיהָ	
	اور-مرے	بھی	دونوں	محلون	اور-کلیون	اور-رہ-گئی	وہ-عورت	سے-دونوں	آس-کے-بچوں	
	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H4248</a>	<a href="#">H3630</a>	<a href="#">H7604</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3206</a>	
	וּמְאִישָׁהּ									
	اور-آس-کے-شوبر-سے									
	<a href="#">H0376</a>									

تھے۔ رہے ہی بیٹے نہ اور شوبر نہ کا نعومی اب گئے۔ بو بحق جاں بھی بیٹے دونوں

6	וְתָקַם	הִיא	וּבְלִיתֶיהָ	וַתִּשָׁב	מִשְׁרֵי	מוֹאָב	כִּי	שָׁמְעָה	בְּשָׂרָה	מוֹאָב
	اور-اٹھی	وہ	اور-اُس-کی-بہوئیں	اور-لوٹی	سے-کھیتوں	موآب-کے	کیونکہ	اُس-نے-سنا	میں-کھیت	موآب-کے
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3618</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H4124</a>				

کے	یاد-کیا	خداوند-نے	آت-کو	عَمُو	لָתָת	لָהֶם	لָחֶם:
کہ	یاد-کیا	خداوند-نے	کو	اپنی-قوم	دینے-کو	اُن-کو	روٹی
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3899</a>

روانہ لئے کے یہوداہ وطن اپنے وہ تب ہے۔ ربا دے فصلیں اچھی دوبارہ اُسے کے کر رحم پر قوم اپنی رب کہ ملی خبر میں موآب ملک کو نعمی دن ایک بے پہنچاتا تک یہوداہ جو گئیں آپر راستے اُس وہ جب چلیں۔ ساتھ بھی روت اور عُرفہ ہوئی۔

7	וַתֵּצֵא	מִן-	הַמְּקוֹם	אֲשֶׁר	הָיְתָה-	שָׁמָּה	וַיִּשְׁרֵי	עַמּוֹהָ	וַתִּלְכְּדָהּ	
	اور-نکلی	سے	اُس-جگہ	جہاں	تھی	وہاں	اور-دونوں	اُس-کی-بہوئیں	اُس-کے-ساتھ	اور-چلیں
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3618</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3212</a>	

بְּדֶרֶךְ	לְשׁוֹב	אֶל-	אֶרֶץ	יְהוּדָה:
راستے-میں	لوٹنے-کو	کی-طرف	زمین	یہوداہ-کی
<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3063</a>

روانہ لئے کے یہوداہ وطن اپنے وہ تب ہے۔ ربا دے فصلیں اچھی دوبارہ اُسے کے کر رحم پر قوم اپنی رب کہ ملی خبر میں موآب ملک کو نعمی دن ایک بے پہنچاتا تک یہوداہ جو گئیں آپر راستے اُس وہ جب چلیں۔ ساتھ بھی روت اور عُرفہ ہوئی۔

8	וַתֹּאמֶר	נְעֻמִי	לְשָׁרֵי	כַלִּיתִיהָ	לְכָנָה	שָׁבָנָה	אִשָּׁה	לְבֵית	אִמָּהּ	יְעִשָׂה
	اور-کہا	نعمی-نے	سے-دونوں	اپنی-بہوئیں	جاؤ	لوٹو	بر-ایک	کو-گھر	اپنی-ماں-کے	کے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3618</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0517</a>

יְהוָה	עִמָּכֶם	חֶסֶד	כְּאִשֶׁר	עֲשִׂיתֶם	עִם-	הַמְּתִים	וְעַמִּדִי:
خداوند	تمہارے-ساتھ	رحم	جیسا	تم-نے-کیا	ساتھ	مُردوں-کے	اور-میرے-ساتھ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4191</a>						

بے-کیا پر مجھ اور مرحوموں نے آپ جتنا کرے رحم اُتنا پر آپ رب جائیں۔ چلی واپس گھر کے باپ ماں اپنے اب کہا، سے بہوئیں اپنی نے نعمی تو

9	יָתֵן	יְהוָה	לָכֶם	וּמִצָּאֵן	מְנוּחָה	אִשָּׁה	בֵּית	וַתִּשְׁק	לְהָן	וַתִּשְׁאַנְהָ
	دے	خداوند	تم-کو	اور-پاؤ	آرام	بر-ایک	گھر-میں	اپنے-شوہر-کے	اور-چوما	اور-اُنہوں-نے-اُٹھائی
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H4496</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5375</a>

קוֹלָן	וַתְּבַכֶּיהָ:
اپنی-آواز	اور-روئیں
<a href="#">H1058</a>	<a href="#">H1058</a>

پڑیں رو دونوں دیا۔ بوسہ اُنہیں نے اُس کر کہہ یہ دے۔ سکوں کے کر مہیا شوہر نئے اور گھر نئے کو آپ وہ

10	וַתֹּאמֶרְנָה-	לָהּ	כִּי-	אֵתְךָ	נָשׁוּב	לְעַמִּדָּה:
	اور-کہا-اُنہوں-نے	اُسے	کہ	تیرے-ساتھ	ہم-لوٹیں-گی	تیری-قوم-کو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>

گی۔ جائیں پاس کے قوم کی آپ ساتھ کے آپ ہم نہیں، برگز کیا، اعتراض اور

11	וַתֹּאמֶר	נְעֻמִי	שָׁבָנָה	בְּנֹתַי	לְכָנָה	תִּלְכְּדָהּ	עִמִּי	הָעוֹד-	לִי	בָנִים
	اور-کہا	نعمی-نے	لوٹو	میری-بیٹیو	کیوں	جاؤ-گی	میرے-ساتھ	کیا-ابھی	میرے-لیے	بیٹے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H5750</a>

בְּמִעֵי	וְהָיוּ	לָכֶם	לְאִנְשִׁים:
میرے-پیٹ-میں	اور-ہوں	تمہارے-لیے	شوہر
<a href="#">H4578</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0376</a>

پیدا بیٹا کوئی مزید تو سے مجھ فائدہ؟ کیا کا جانے ساتھ میرے اب جائیں۔ چلی واپس گھر اپنے اپنے اور کریں بس بیٹیو، کیا، اصرار نے نعمی لیکن سکے۔ بن شوہر کا آپ جو گا بو نہیں

12	שְׂבָבָה	בְּנָתִי	לְכֹן	כִּי	זְמַנִּי	מִהֲנוֹת	לְאִישׁ	כִּי	אֶמְרָתִי	יֵשׁ-
	لوٹو	میری-بیٹیو	جاؤ	کیونکہ	بوڑھی-ہو-گئی-ہوں	ہونے-سے	مرد-کی	کیونکہ	میں-نے-کہا	ہے
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H3212</a>		<a href="#">H2204</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3426</a>

لِ	תְּקִינָה	נָם	הַיְיִתִּי	הַלַּיְלָה	לְאִישׁ	וְנָם	יְלָדָי	בָּנִים:
میرے-لیے	امید	بھی	میں-ہوں	آج-رات	مرد-کی	اور-بھی	جنوں	بیٹے
	<a href="#">H1571</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H3205</a>	

رات آج شادی میری بلکہ ہوتی بھی امید کی اس اگر اور سکتی۔ کر نہیں شادی دوبارہ کہ ہوں چکی ہو بوڑھی اتنی تو مَیں جائیں۔ چلی واپس بیٹیو، نہیں ہوتے پیدا بیٹے ہاں میرے اور ہوتی کو

13	וְהִלַּחְתִּי	תְּשַׁבְּרָנָה	עַד	אֲשֶׁר	יִדְבְּלוּ	הַלְחֵן	תְּעַזְּבֵנָה	לְבַלְתִּי	הַיּוֹת	לְאִישׁ
	کیا-اُن-کے-لیے	انتظار-کرو-گی	جب-تک	کہ	بڑے-ہوں	کیا-اُن-کے-لیے	رکو-گی	نہ-ہونے-کو	ہونا	مرد-کی
	<a href="#">H3860</a>		<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3860</a>	<a href="#">H5702</a>	<a href="#">H1115</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0376</a>

אֵל	בְּנָתִי	כִּי-	מִר-	לִי	מֵאֵד	מִזֶּם	כִּי-	יִצְאָה	כִּי	יָד-	יְהוָה:
نہیں	میری-بیٹیو	کیونکہ	تلخ	میرے-لیے	بہت	تم-سے	کیونکہ	نکلا	مجھ-میں	باتھ	خداوند-کا
<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H1323</a>		<a href="#">H4843</a>		<a href="#">H3966</a>			<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3068</a>	

میرے ہاتھ اپنا نے رب بیٹیو۔ نہیں، کرتیں؟ انکار سے کرنے شادی سے اور کسی تک وقت اُس آپ کیا سکتیں؟ کر انتظار تک جانے ہو بالغ کے اُن آپ کیا تو آئیں؟ کیوں میں زد کی لعنت اِس آپ تو ہے، اُٹھایا خلاف

14	וְתִשָּׁנָה	קוֹלִן	וְתִבְכִּינָה	עוֹד	וְתִשָּׂק	עֲרָפָה	לְחַמּוֹתָהּ	וְרוֹת	דְּבָקָה
	اور-اُنہوں-نے-اُٹھائی	اپنی-آواز	اور-روئیں	پھر	اور-چوما	عرفہ-نے	اپنی-ساس-کو	اور-روت	چمٹ-گئی
	<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H1058</a>	<a href="#">H5750</a>		<a href="#">H6204</a>	<a href="#">H2545</a>	<a href="#">H7327</a>	<a href="#">H1692</a>

בָּה:  
اُس-سے

رہی۔ لہٹی ساتھ کے نعومی روت لیکن کہا، الوداع کر چوم کو ساس اپنی نے عُرْفہ پڑیں۔ رو دوبارہ روت اور عُرْفہ تب

15	וְתִאמַר	הִנְהוּ	שָׂבָה	יְבִמּוֹתָי	אֵל-	עַמָּה	וְאֵל-	אֶלְהֵיָהּ	שׁוּבִי	אֲחֵרִי
	اور-کہا	دیکھ	لوٹ-گئی	تیری-دیورانی	کی-طرف	اپنی-قوم	اور-کی-طرف	اپنے-معبودوں	لوٹ	پیچھے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2994</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	

יְבִמּוֹתָי:  
اپنی-دیورانی-کے  
[H2994](#)

کریں۔ بی ایسا بھی آپ اب ہے۔ گئی چلی واپس پاس کے دیوتاؤں اپنے اور قوم اپنی عُرْفہ دیکھیں، کی، کوشش کی سمجھانے اُسے نے نعومی

16	וְתִאמַר	רוֹת	אֵל-	תִּפְנְעֵי-	כִּי	לְעִזְבָּה	לְשׁוֹב	מֵאֲחֵרָיָהּ	כִּי	אֵל-
	اور-کہا	روت-نے	نہ	زور-ڈال	مجھ-پر	چھوڑنے-کو-تجھے	لوٹنے-کو	تیرے-پیچھے-سے	کیونکہ	کی-طرف
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H7327</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H6293</a>		<a href="#">H7725</a>				<a href="#">H0413</a>

אֲשֶׁר	תִּלְכִּי	אֵלָי	וּבְאֲשֶׁר	תִּלְכִּי	אֵלָי	עַמָּה	עַמָּה	עַמָּה	וְאֶלְהֵיָהּ
جہاں	تو-جائے-گی	میں-جاؤں-گی	اور-جہاں	تو-رہے-گی	میں-رہوں-گی	تیری-قوم	میری-قوم	اور-تیرا-خدا	
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3212</a>						<a href="#">H0430</a>	

אֶלְהֵיָהּ:  
میرا-خدا  
[H0430](#)

بھی مَیں وہاں گی رہیں آپ جہاں گی۔ جاؤں مَیں گی جائیں آپ جہاں کیجئے۔ نہ مجبور پر جانے واپس کر چھوڑ کو آپ پیچھے دیا، جواب نے روت لیکن ہے۔ خدا میرا خدا کا آپ اور قوم میری قوم کی آپ گی۔ رہوں

17	בְּאֶשֶׁר	הַמְּזוּחָה	אֲמוֹתַי	וְשָׁם	אֶקְבֵּר	כֹּה	יַעֲשֶׂה	יְהוָה	לִי	וְכֹה	יִסְיֶף
	جہاں	تو-مرے-گی	میں-مروں-گی	اور-وہاں	دفن-ہوں-گی	ایسا	کرے	خداوند	مجھ-سے	اور-ایسا	بڑھائے
	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H6912</a>	<a href="#">H3541</a>		<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H3254</a>

כִּי הַמָּוֶת יִפְרִיד בֵּינִי וּבֵינְךָ: اور-تجھ-میں  
 موت جدا-کرے مجھ-میں  
[H4194](#) [H6504](#) [H0996](#) [H0996](#)

اللہ تو ہو نہ پورا وعدہ یہ میرا اگر ہے۔ سکتی کر الگ سے آپ مجھے ہی موت صرف گی۔ جاؤں ہو دفن وہیں اور گی مروں میں وہیں گی مرے آپ جہاں دے! سزا سخت مجھے

18	וְהָרָא	כִּי-	מִתְאַמֶּצֶת	הִיא	לְלֶכֶת	אִתָּה	וְתִתְחַדֵּל	לְדַבֵּר	אֵלַיְךָ:
	اور-دیکھا-اُس-نے	کہ	پکی	وہ	جانے-کو	اُس-کے-ساتھ	اور-رُک-گئی	بولنے-سے	اُس-سے
	<a href="#">H7200</a>		<a href="#">H0553</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2308</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>

آئی۔ باز سے سمجھانے اُسے اور گئی ہو خاموش وہ لئے اِس ہے، ارادہ پکا کا جانے ساتھ کا روت کہ لیا جان نے نعومی

19	וְתִלְכְּנָה	שְׁתִּיחֶם	עַד-	בְּאֶנְהָ	לְחֶסְבִית	וַיְהִי	כְּבֹאֲנָהּ	לְחֶסְבִית	וְנָתַחֵם	כָּל-
	اور-چلیں	دونوں	جب-تک	آنا-اُن-کا	بیت-لحم	اور-ہوا	جب-اُنیں-وہ	بیت-لحم	اور-ہلچل-مچی	تمام
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1035</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1035</a>	<a href="#">H1949</a>	<a href="#">H3605</a>

הָעִיר עֲלֵיָהֶן וְתִאמְרָנָה הַזֹּאת נִעְמִי: اور-کہا-اُنہوں-نے  
 شہر اُن-پر اور-کہا-اُنہوں-نے  
 شہر اُن-پر اور-کہا-اُنہوں-نے  
[H5281](#) [H2063](#) [H0559](#)

ہے؟ نہیں نعومی یہ کیا لگیں، کہنے عورتیں گئی۔ مچ چل بل میں شہر پورے تو ہوئیں داخل جب گئیں۔ پہنچ لحم بیت چلتے چلتے اور پڑیں چل وہ

20	וְתִאמְרָ	אֵלַיְהֶן	אֵל-	תִּקְרָאנָהּ	לִי	נִעְמִי	קָרָאנָהּ	לִי	מָרָא	כִּי-	הַמֵּר
	اور-کہا-اُس-نے	اُن-سے	نہ	پکارو	مجھے	نعومی	پکارو	مجھے	مارا	کیونکہ	تلخ-کیا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4755</a>		<a href="#">H4843</a>

שָׂרִי לִי מְאֹד: اور-کہا-اُس-نے  
 میرے-لیے بہت  
 قادر-مطلق-نے  
[H3966](#) [H7706](#)

ہے۔ دیا ڈال میں مصیبت سخت مجھے نے مطلق قادر کیونکہ مارہ، بلکہ کہنا مت نعومی مجھے اب دیا، جواب نے نعومی

21	אֲנִי	מְלֹאָה	הַלְכָתִי	וְרִיקָם	הַשִּׁבְנִי	יְהוָה	לְמָה	תִּקְרָאנָהּ	לִי	נִעְמִי	וַיְהוָה
	میں	بھری	گئی	اور-خالی	واپس-لایا-مجھے	خداوند-نے	کیوں	پکارو	مجھے	نعومی	اور-خداوند
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H4392</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H7387</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H7121</a>		<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H3068</a>

עֲנֶה לִי: اور-کہا-اُس-نے  
 میرے-خلاف اور-قادر-مطلق-نے  
 بُرا-کیا میرے-لیے  
[H7706](#)

خلاف میرے خود نے رب کہنا۔ مت نعومی مجھے چنانچہ ہے۔ آیا لے واپس ہاتھ خالی مجھے رب اب لیکن تھے، ہوئے بھرے ہاتھ میرے وقت جاتے سے یہاں ہے۔ ڈالا میں مصیبت اِس مجھے نے مطلق قادر ہے، دی گواہی

22	וְתִשָּׁב	נִעְמִי	וְרוּת	הַמּוֹאֲבִיָּה	כְּלֶתָהּ	עֲמָה	הַשָּׂבָה	מִשְׁרָי	מוֹאֵב	וְהִמָּה
	اور-لوٹی	نعومی	اور-روت	موآبی	اُس-کی-ہو	اُس-کے-ساتھ	جو-لوٹی	سے-کھیتوں	موآب-کے	اور-وہ
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H5281</a>	<a href="#">H7327</a>	<a href="#">H4125</a>	<a href="#">H3618</a>		<a href="#">H7725</a>		<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H1992</a>

בְּאוֹתָיִם: اور-کہا-اُس-نے  
 میں-لحم شروع-میں فصل  
 اُنیں بیت-لحم شروع-میں فصل  
 اُنیں بیت-لحم شروع-میں فصل  
[H0935](#) [H1035](#) [H8462](#) [H8184](#)

تھی۔ چکی ہو شروع کٹائی کی فصل کی جو تو پہنچی لحم بیت ساتھ کے ہو موآبی اپنی نعومی جب